

9th Class Home Economics Urdu Medium Online Test For Full Book

Sr	Questions	Answers Choice
1	غفلت شعار والدین جذباتی طور پر ہوتے ہیں	A. خوش B. پریشان C. لاپرواہ D. بے لچک
2	سردیوں کے موسم میں کس غذا کا استعمال بڑھ جاتا ہے	A. تربوز B. خربوزہ C. خشک میوہ جات D. مشروبات
3	میں مسلمانوں نے پاکستان بنا کر کس ملک کے تسلط سے آزادی حاصل کی 1947	A. فرانس B. بھارت C. برطانیہ D. امریکہ
4	سکول جانے والے بچوں کے لیے سکول کا یونیفارم بہتر ہوتا ہے	A. ریشمی کپڑے کا B. سوئی کپڑے کا C. اننی کپڑے کا D. لینن کے کپڑے کا
5	غیر سیر شدہ چکنائی عام درجہ حرارت پر سیال یا مائع میں ہوتی ہے اس کو کن زرائع سے حاصل کیا جاتا ہے	A. حیوانی B. انلجو C. بیتائی D. دودھ، مکین، بالائی
6	خاکستری مادے کو کہا جاتا ہے	A. نمکیات B. کاربوہائیڈریٹس C. وٹامن D. چکنائی
7	ڈے کیر سنٹر کے قیام کی بنیاد ڈالی	A. محکمہ صحت نے B. سماجی بہبود کے ادارے نے C. محکمہ دفاع نے D. محکمہ بحالی معزوروں نے
8	گوشت میں چکنائی کی کافی مقدار موجود ہوتی ہے	A. مدنی نمکیات موجود نہیں ہوتے B. کاربوہائیڈریٹس موجود نہیں ہوتے C. پانی موجود نہیں ہوتا D. وٹامنز موجود نہیں ہوتے
9	سال کی خاتون جو معتدل آب و ہوا میں رہائش پذیر ہو اس کو کیلوریز کی ضرورت ہوتی ہے 25	A. 2100 تک 1800 سے B. 500 تک 200 سے C. 2500 تک 2000 سے D. 3600 تک 2500 سے
10	نو بلوغت کی عمر ہوتی ہے	A. چھ سے بارہ سال B. تیرہ سے اٹھارہ سال C. اٹھارہ سے بیس سال D. بیس سے پانیس سال
11	انسانی جسم کے وزن کا کتنے فی صد حصہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے	A. ایک تہائی B. دو تہائی C. اسی چوتھائی D. تین چوتھائی
12	بچوں کی دوسری سے منفی رویے کی ابتداء زندگی کے ابتدائی کن سالوں میں ہوتی ہے	A. 4 B. 2 C. 6 D. 8
13	پھولے بوے اور چمکدار انسان کو دکھائی دیتے ہیں	A. پتلا B. موٹا C. لمبا D. چوڑا
14	سکروی کی بیماری ہے	A. وٹامن سی کی کمی کی وجہ سے B. وٹامن بی کی کمی کی وجہ سے C. وٹامن ڈی کی کمی سے D. وٹامن کے کی کمی سے
15	آئرن، فاسفرسٹ، وٹامن کے بہترین زرائع ہیں	A. پھل B. سبز پل C. اٹھے D. گوشت، مچھلی اور اٹھے

16	یوم اکتامکس دراصل ، زرائع و وسائل کا وہ انتظام ہے جس سے کون سی ضروریات پوری کی جاتی ہے	<p>A. انفرادی اور خاندانی</p> <p>B. معاشی اور معاشرتی</p> <p>C. روحانی اور جنینی</p> <p>D. صحت اور صفائی</p>
17	نومولود کی نشوونما ہوتی ہے	<p>A. سر سے پاؤں کی جانب</p> <p>B. پاؤں سے سر کی جانب</p> <p>C. ہاتھوں سے پاؤں کی جانب</p> <p>D. صرف سر اور ہاتھوں کی طرف</p>
18	حرارت ناپنے کی اکائی ہے	<p>A. کیلوری</p> <p>B. میٹر</p> <p>C. نیوٹن</p> <p>D. سینٹی میٹر</p>
19	دیر سے خراب ہونے والی غذاؤں میں شامل ہیں	<p>A. گوشت</p> <p>B. دالیں اور چاول</p> <p>C. پھل اور سبزیوں</p> <p>D. اٹے</p>
20	ریشم حاصل ہوتا ہے	<p>A. بھیڑ سے</p> <p>B. کیڑے سے</p> <p>C. کپاس سے</p> <p>D. السی کے پودے سے</p>